



TLC لائسنس یافتگان کے نام نوٹس **جنہیں سمنز موصول ہوئے ہیں:** **OATH کے دفاتر بند ہیں**

OATH کا 31-00 47th Ave., Long Island City پر قائم سماعت کا سینٹر، مزید کسی نوٹس تک بند ہے۔

آپ کو اب بھی اپنے سمنز پر درج کردہ سماعت کی مقررہ تاریخ تک جواب دینا ہو گا۔
اپنی سماعت کیسے طے کی جائے

"فاصلاتی سماعت کی درخواست" کے عنوان پر مشتمل ایک ای میل RemotelIC@oath.nyc.gov پر ارسال کریں۔ آپ کی ای میل میں درج ذیل چیزیں شامل ہونی چاہئیں:

1- آپ کا نام

2- آپ کا سمن نمبر (آپ کے سمنز کے فارم کے سب سے اوپر موجود نمبر)

3- آپ کے سمنز یا ری شیڈیول نوٹس پر بیان کردہ آپ کی سماعت کی تاریخ اور وقت۔

○ یاددہانی: آپ کو اپنے سمنز پر درج کردہ سماعت کی تاریخ پر یا اس سے قبل فون پر سماعت کی درخواست کرنی چاہئے۔ اگر آپ اپنے سمنز یا ری شیڈیول نوٹس پر درج کردہ وقت اور تاریخ پر اپنی سماعت مکمل نہیں کرتے، تو آپ کو قصور وار ٹھہرایا جائے گا اور ممکن ہے کہ آپ مزید ہرجانوں یا اپنے لائسنس کی ممکنہ معطلی کا سامنا کریں۔

4- اپنی بول چال کی زبان سمیت، مفت لسانی معاونت کی کسی بھی قسم کی درخواست۔

مفت مدد

اپنی سماعت سے قبل OATH ہیلپ سینٹر کے ساتھ مفت براہ راست مشاورت کی درخواست کرنے کے لئے، Manhelpcenter@oath.nyc.gov پر ای میل کریں۔ ہیلپ سینٹر سے بات کرنے کے لئے یا ہیلپ سینٹر کیلئے وائس میل والا پیغام چھوڑنے کے لیے براہ کرم (212) 436-0845 پر کال کریں۔

اگر آپ کو فوری مدد کی ضرورت ہو تو، آپ OathHelp کا لفظ لکھ کر (917) 451-8829 پر بھیج سکتے ہیں اور OATH کے عملہ کا ممبر جلد ہی آپ کو فون کرے گا۔

**** اپنی سماعت کے بارے میں ٹیکسٹ میسج کی یاد دہانیاں حاصل کریں: OATHreminder لکھ کر (917) 451-8829 پر ٹیکسٹ کریں**